

خاوند كے شرط ركھی كه سكرٹ نوشی نهیں
كریگا لیكن وه شرط پوری نهیں كر رہا
اشترطت علی زوجها أن لا یشرب الدخان ولم یلتزم بالشرط
[أردو - اردو - urdu]

شیخ محمد صالح المنجد

ترجمہ: اسلام سوال وجواب ویب سائٹ
تنسیق: اسلام ہاؤس ویب سائٹ

ترجمہ: موقع الإسلام سؤال وجواب
تنسیق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



خاوند کے شرط رکھی کہ سگرٹ نوشی نہیں کریگا لیکن وہ شرط پوری نہیں کر رہا

کیا عورت کے جائز ہے کہ وہ اس سے شادی کرنے والے شخص سگرٹ نوشی ترک کرنے کی شرط رکھے، اور اگر وہ اس شرط پر عمل نہ کرے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟

الحمد لله:

اول:

سگرٹ نوشی حرام ہے، کیونکہ اس میں مال کا ضیاع اور صحت کے لیے نقصان ہے، اور پھر دوسروں کو بھی نقصان اور ضرر پہنچتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان سوال نمبر (۱۰۹۲۲) کے جواب میں گزر چکا ہے آپ اس کا مطالعہ کریں۔

دوم:

عقد نکاح کے وقت خاوند اور بیوی ایک دوسرے پر شرط رکھیں تو اصل میں یہ شرطیں صحیح ہیں اور ان کا پورا کرنا واجب ہے، جب تک یہ شروط شریعت کے مخالف نہ ہوں۔

کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"سب سے زیادہ شرائط پوری کرنے کا حق وہ شروط ہیں جن سے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو"

صحیح بخاری حدیث نمبر (۲۷۲۱) صحیح مسلم حدیث نمبر (۱۴۱۸) اور اگر خاوند اس شرط پر عمل نہ کرے تو عورت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"اگر بیوی کے لیے شرط رکھے کہ عقد نکاح کے بعد وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریگی، یا صدق و سچائی اور امانت کا التزام کریگی تو اس نے عقد نکاح کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو نکاح فسخ ہو جائیگا " انتہی دیکھیں: الاختیارات (۲۱۹)۔



اسی طرح اگر عورت نے اپنے خاوند کے لیے شرط رکھی کہ وہ سگرٹ نوشی ترک کریگا، لیکن اس نے سگرٹ نوشی ترک نہ کی تو عورت کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے۔

شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا:

"ایک عورت سے ایک شخص نے منگنی کی تو عورت نے یہ شرط رکھی کہ وہ سگرٹ نوشی نہیں کریگا، تو اس شخص نے موافقت کر لی اور ان کی شادی ہو گئی، لیکن عورت کو علم ہوا کہ وہ سگرٹ نوشی کرتا ہے، اب اس کا حکم کیا ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

"الحمد لله:

اگر تو معاملہ ایسا ہی ہے جیسا بیان ہوا ہے تو مذکورہ عورت کو فسخ نکاح کا اختیار ہے، یا پھر اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے " انتہی

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ محمد بن ابراہیم (۱۰ / ۱۴۹)۔

لیکن نکاح فسخ کرنے سے قبل اسے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اس حرام کام کو ترک کرنے میں اس کی معاونت کرے، اگر تو وہ استقامت اختیار کرتا ہوا صحیح ہو جائے تو الحمد للہ، لیکن اگر وہ سگرٹ نوشی پر ہی اصرار کرے تو پھر وہ مصالح اور مفسد یعنی مصلحت اور خرابی دونوں میں موازنہ کرے کہ اس سے علیحدہ ہونے میں کیا مصلحت اور کیا خرابی ہے ہو سکتا ہے اس کا خاوند کے ساتھ رہنا زیادہ بہتر ہو تا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے خاوند کو ہدایت دے دے۔

والله اعلم .